

اٹل پنشن یوجنا میں شامل ہوں!!!

ابھی شامل
ہوں!!!
یا ڈائل کریں
ٹول فری
1800-110-069



اے پی وائی کے تحت بڑھاپے کے فوائد موجودہ چھوٹی سرمایہ کاری کو یقینی طور پر بے اثر بنا دیتی ہے!!!

اے پی وائی کیا ہے؟	کس کے لئے؟	اے پی وائی کیوں؟	کس طرح شامل ہوں؟
- حکومت ہند کی طرف سے ضمانت شدہ پنشن اسکیم - صارفین متعین رقم مستقل طور پر جمع کرتے ہیں - کم از کم ضمانت شدہ پنشن کی رقم ہے 1000-5000 ماہانہ - شوہر و بیوی خاندان کی زیادہ پنشن کے لئے الگ الگ اے پی وائی کھول سکتے ہیں	18-40 سال کی عمر کے تمام ہندوستانی شہری - مذکورہ بالا عمر گروپ کے موجودہ سواوالمبن سے مستفید ہونے والے - اگر آپ انکم ٹیکس کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں	- تین یقینی فوائد - صارف کے لئے کم از کم ضمانت شدہ پنشن - صارف کی موت کے بعد میاں یا بیوی کو کم از کم ضمانت شدہ پنشن - نامزد شخص 1.70 سے 8.50 لاکھ تک کی جمع شدہ پنشن وصول کر سکتا ہے	- اپنے بینک سے رابطہ قائم کریں - اے پی وائی کا آسان رجسٹریشن فارم جمع کریں - اپنا ماہانہ/ سہ ماہی/ چہ ماہی شراکتی رقم جمع کریں - آدھار کارڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

اے پی وائی سب کے لئے ریٹائرمنٹ کا موزوں ترین انتخاب ہے!!!